



## آدمی سوئے گا اور امانت اس کے دل سے قبض کر لی (اٹھالی) جائے گی، چنانچہ اس کا اثر ایک معمولی نشان کی طرح باقی رہ جائے گا پھر وہ سوئے گا اور امانت اس کے دل سے نکال لی جائے گی، تو اس کا نشان آبلہ کی مانند باقی رہ جائے گا

حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ ﷺ دو باتیں بیان فرمائیں: ان میں سے ایک کو میں نے دیکھ لیا اور دوسری کا میں انتظار کر رہا ہوں آپ ﷺ سے بیان کیا کہ: امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ (گہرائی) میں اتری (یعنی اسے فطرت کا حصہ بنایا) پھر قرآن کا نزول ہوا اور انہوں نے اسے (یعنی امانت کو) قرآن اور سنت سے جانا پھر آپ ﷺ سے امانت کے اٹھ جانے کا حال بیان کیا آپ ﷺ نے فرمایا: ”(اس طرح کے) آدمی سوئے گا اور امانت اس کے دل سے قبض کر لی (اٹھالی) جائے گی، چنانچہ اس کا اثر ایک معمولی نشان کی طرح باقی رہ جائے گا پھر وہ سوئے گا اور امانت اس کے دل سے نکال لی جائے گی، تو اس کا نشان آبلہ کی مانند باقی رہ جائے گا جیسے ایک انگارے کو، جسے تو اپنے پیر پر لڑھکائے تو اس سے چھالے نمودار ہو جائے، چنانچہ تو اسے ابھرا ہوا تو دیکھتا ہے لیکن اس میں کوئی چیز باقی نہیں ہوتی“ پھر آپ ﷺ نے ایک کنکری کو لیا اور (مثال سمجھانے کے لیے) اسے پاؤں پر لڑھکایا ”پس لوگ صبح کے وقت آپس میں خرید و فروخت کرتے ہوں گے لیکن کوئی امانت ادا کرنے کے قریب بھی نہ پھٹکتا ہوگا یہاں تک کہ وہ سوئے گا کہ فلاں شخص کی اولاد میں ایک امانت دار آدمی تھا، حتیٰ کہ آدمی کے متعلق کہہ جائے گا کہ: وہ کس قدر مضبوط، کس قدر ہشیار اور کس قدر عقل مند ہے! حالانکہ اس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا“ (راوی حدیث حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”بلا شبہ مجھ پر ایک وقت ایسا گزرچکا ہے کہ مجھے یہ پروا نہ ہوتی تھی کہ میں کس سے خرید و فروخت کروں، اس لیے کہ (مجھے یقین ہوتا تھا کہ) اگر مسلمان ہے تو اس کو اس کا دین مجھ پر میری چیز لوٹا دے گا اور اگر عیسائی یا یہودی ہے تو اس کا ذمہ دار (نگران) مجھے میری چیز واپس کر دے گا، لیکن آج میں تم میں سے صرف فلاں فلاں آدمی (یعنی خاص لوگوں) سے خرید و فروخت کرتا ہوں“

[صحیح] [متفق علیہ]

یہ حدیث وضاحت کرتی ہے کہ امانت لوگوں کے دلوں سے دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی جب پہلی بار امانت کا کچھ حصہ ختم ہوگا تو اس کا نور ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ داغ کی طرح ایک دھندلا سا نشان رہ جائے گا یعنی پہلے رنگ کے برخلاف دوسرا رنگ چڑھ جائے گا اور جب امانت کا کچھ اور حصہ ختم ہوگا تو اس کا نشان آبلہ کی طرح باقی رہے گا، اور یہ ایسا مستحکم نشان ہے جو کچھ مدت کے بعد ہی ختم ہوگا، اور یہ تاریکی پہلے والی تاریکی کے اوپر ہوگی، پھر اس نور کے دل میں پیدا ہونے کے بعد زائل ہونے کو، اور اس کے دل میں جگہ بنانے کے بعد اس سے نکل جانے اور اس کی جگہ تاریکی کے لئے لینے کو، اس انگارے سے تشبیہ دی گئی ہے جس کو آدمی اپنے پیر پر لڑھکائے یہاں تک کہ اس کے پیر میں اثر انداز ہونے کے بعد وہ چنگاری ختم ہو جائے اور صرف داغ باقی رہ جائے، اور آپ ﷺ کا کنکری لے کر اسے لڑھکانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے لیے یہ بات خوب واضح ہو جائے (فیصح الناس) اس نیند کے بعد جس میں امانت اٹھا لی جائے گی (لوگ آپس میں خرید و فروخت کریں گے) تو کوئی بھی شخص امانت کے قریب بھی نہ پھٹکے گا، چہ جائے کہ وہ عملاً امانت کی ادائیگی کرے (یہاں تک کہ وہ سوئے گا) امانت کی برتری اور جو اس وصف سے متصف ہوگا اس کی شہرت کے لیے (بے شک فلاں شخص کی اولاد میں سے ایک آدمی امین تھا) یعنی امانت دار تھا (یہاں تک کہ آدمی کے متعلق کہہ جائے گا کہ: وہ کس قدر مضبوط ہے) عمل میں، (کس قدر ہشیار ہے) بمعنی مہارت و ہوشیاری اور (کس قدر عقل مند ہے) یعنی وہ

انتہائی ذہین و فطین شخص (جب کہ اس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا) چاہے جائے کہ اس کے اندر امانت پائی جائے جو کہ ایمان کی شاخوں میں سے ہے (بلاشبہ مجھ پر ایک وقت ایسا گزر چکا ہے کہ مجھے یہ پروا نہ ہوتی تھی کہ میں کس سے خرید و فروخت کروں) یعنی مجھے اس بات کی پروا نہیں ہوتی تھی کہ میں کس سے خرید و فروخت کر رہا ہوں کیوں کہ مجھے معلوم تھا کہ امانت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور یہ کہ لوگ وفادار ہیں، تو جس سے بھی ملاقات ہوتی اس کے حالات کی چھان بین کیے بغیر اس سے خرید و فروخت کر لیتا تھا اس لیے کہ لوگوں کے اندر امانت و دیانت عام تھی (اور رہا آج کا وقت) تو امانت داری بہت کم باقی بچی ہے اسی لیے آپ نہ کہنا: (میں تم میں سے صرف فلاں فلاں آدمی سے خرید و فروخت کرتا ہوں) یعنی چند افراد سے خرید و فروخت کرتا ہوں جنہیں میں پہچانتا ہوں اور جن پر مجھے بھروسہ ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3016>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

